

تمام لوگوں کے لیے ویکسین

+ فلو کے ٹیکے

J&J COVID-19 + Pfizer +

ویکسین

- بالغ کی خوراکیں
- 5 برس اور اس سے بڑی عمر کے بچوں کی خوراکیں
- کمزور مدافعت رکھنے والوں کے لیے اضافی بنیادی سیریز کی خوراکیں
- پوسٹرز

یہاں پر تمام اہل افراد کے لیے دستیاب ہے

COVID-19 اور فلو کا موسم دونوں ایک ساتھ آ رہے ہیں اس میں خود کو اور اپنے پیاروں کو بیمار پڑنے سے بچانا پڑے سے کہیں زیادہ ابھ ہے۔

COVID-19 اور فلو کی ویکسینز محفوظ بیں اور بیماری، بیسپتال جانے اور حتیٰ کہ موت کا خطرہ کم کرنے میں انتہائی اثر ہے۔

آپ COVID-19 اور فلو کی ویکسین شاٹ ایک بی وقت میں آپ کسی اضافی ادائیگی کے بغیر حاصل کر سکتے ہیں۔

آپ کے لیے کون سی ویکسین بہتر ہے اس کے بارے میں مزید معلوم کریں۔ کیوں آر کوڈ سکین کریں یا کال 1-844-692-4692 **1-844-NYC-4NYC**



فلو ویکسینز کے
بارے میں مزید جانیں۔

ویکسینز COVID-19
کے بارے میں مزید جانیں۔



فلو اور COVID-19 کی ویکسین کس کو کروانی چاہئے؟

انفلوئنزا (فلو) ویکسین

پر سال چھ ماہ پا اس سے بڑی عمر کے تمام افراد کو موسمی انفلوئنزا (فلو) سے بچاؤ کی ویکسین لگوانی چاہئے، بلخوص:

- + 2 برس سے کم عمر بچے
- + 65 سے بڑی عمر کے افراد
- + حاملہ یا ایسی خواتین جنہوں نے حال ہی میں بچہ پیدا کیا ہے
- + ایسے افراد جن میں طبی عارضے ہیں مثلاً زیابیطس، دمہ، دل کی بیماریاں یا ایج آئی وی انتہائی ابھ کام انجام دینے والے افراد، بشمول صحت کی دیکھ بھال فرایم کرنے والے اور دیکھ بھال فرایم کتنہ اور ایسے افراد جن میں بیمار پڑنے کا خطرہ بہت زیادہ ہے ایسے افراد کو بھی فلو کی ویکسین لگوانی چاہئے جو بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، بلخوص چھ ماہ سے کم عمر بچے۔

COVID-19 ویکسین

نیویارک کے اکثر باشندے اس وقت COVID-19 کی ویکسین لگوانے کے ابل ہیں:

- + 5 سے 11 کی عمر کے درمیان بچے Pfizer-BioNTech طب اطفال کی دو خوراکیں (ایک تہائی طاقت) لگوا سکتے ہیں۔
- + 12 برس یا اس سے بڑی عمر کے افراد Pfizer-BioNTech ویکسین کی دو خوراکیں لگوا سکتے ہیں۔
- + 18 برس اور اس سے بڑی عمر کے افراد Moderna کی دو خوراکیں یا Johnson & Johnson/Janssen کی ایک خوراک لگوا سکتے ہیں۔

Moderna COVID-19 یا Pfizer ویکسین کی اضافی بنیادی سیریز کی خوراکیں

اضافی بنیادی سیریز کی خوراکیں ان افراد کے لیے دستیاب ہیں جنہوں نے COVID-19 COVID کی اپنی تیسرا خوراک کم از کم 28 دن پہلے لگانی بو اور کسی عارضے یا علاج معالجے کے باعث ان کا مدافعتی نظام کمزور ہو۔ ان میں شامل ہیں:

- + سلطان کا بونے والا علاج معالجہ
- + اعضا کی پیوندکاری اور مدافعتی نظام کی طاقت کو کم کرنے لیے ادویات کا استعمال
- + گزشتہ 2 روز کے دوران استھیم سیل کی پیوندکاری
- + معتدل یا شدید قسم کی بنیادی مدافعتی نظام کی کمزوری
- + ایسی ایج آئی وی جو بہت زیادہ بڑھی بوئی ہے یا جس کا علاج معالجہ نہ بو ہو
- + کارٹیکوایسٹھور ائٹ کی بڑی خوراک سے بونے والا علاج معالجہ یا مدافعتی نظام کو معتدل یا شدید کمزور کرنے والی دیگر ادویات
- + Pfizer کی اضافی بنیادی سیریز کی خوراک لگوانے کے لیے آپ کی عمر لازمی طور پر 5 برس یا اس سے بڑی اور Moderna کی اضافی بنیادی سیریز کی خوراک لگوانے کے لیے آپ کی عمر 18 برس یا اس سے بڑی بونی چاہئے۔ زیادہ تر ایسے افراد جن کو دیگر طبی عارضے، مثلاً زیابیطس، دل پا پھیڑوں کی بیماریاں ہیں ان کے لیے اضافی بنیادی سیریز کی خوراکوں کا مشورہ نہیں دیا جاتا۔

Pfizer Modena کی بوسٹر خوراک - ویکسین لگوانے والے

12 برس یا اس سے بڑی عمر کے بر فرد کو اپنی Pfizer یا Moderna کی COVID-19 COVID کی ویکسین نیشن سیریز کی بنیادی خوراک لگوانے کے کم از کم 5 ماہ بعد بوسٹر کا ٹیکہ لگوانا چاہئے۔

- ایسے افراد جنہوں نے دونوں ٹھیکے Pfizer یا Moderna کی ویکسین کے لگوانے ہیں، ان کو چاہئے کہ وہ کوشش کر کے بوسٹر بھی انبی ویکسینز کی لگوائیں، تاہم اگر وہ چاپیں تو امریکی میں ان کو تینوں میں سے کوئی ایک لگوانے کی اجازت بے۔
- 12 سے 17 برس کی عمر کے درمیان ایسے افراد جنہوں نے 5 ماہ یا اس سے زیادہ عرصہ پہلے اپنی بنیادی سیریز میں Pfizer کے ٹیکے لگوانے تھے وہ اس وقت صرف Pfizer کا بی بوسٹر ٹیکہ لگوانے کے ابل ہیں۔ کمزور مدافعت رکھنے والے بعض 5 سے 11 برس کی عمر کے درمیان بچے اپنے دوسرے ٹیکے کے 28 دنوں کے بعد Pfizer ویکسین کی دوسری اضافی خوراک لگوا سکتے ہیں۔

Johnson & Johnson بوسٹر خوراک - ویکسین لگوانے والے

18 برس یا اس سے بڑی عمر کے بر فرد کو COVID-19 COVID ویکسین نیشن کی ایک بنیادی خوراک لگوانے کے کم از کم دو ماہ بعد بوسٹر کا ٹیکہ لگوانا چاہئے۔ اکثر صورتوں میں Pfizer یا Moderna mRNA COVID-19 (mRNA COVID-19) کو ترجیح دی جاتی ہے۔

NYC Health + Hospitals کے نظام میں موجود پسپتالیں Pfizer اور L&L ویکسین پیش کرتی ہیں۔ NYC Health + Hospitals ویکسین پیش کرتے ہیں۔ مقامات کی مکمل فہرست کے لیے بماری ویب سائٹ ورث کریں: nychealthandhospitals.com